

2010

Roll No.

--	--	--	--	--	--

Sig. of Candidate. _____

Answer Sheet No. _____

Sig. of Invigilator. _____

StudentBounty.com

GEOGRAPHY HSSC-I**SECTION – A (Marks 17)****Time allowed: 25 Minutes**

NOTE:- Section-A is compulsory. All parts of this section are to be answered on the question paper itself. It should be completed in the first 25 minutes and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

Q. 1 Circle the correct option i.e. A / B / C / D. Each part carries one mark.

- | | | | | | |
|--------|--|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| (i) | What does the word GEO mean? | A. Ocean | B. Mountain | C. Earth | D. Moon |
| (ii) | Lithosphere deals with _____ | A. Air | B. Water | C. Solid land | D. Core |
| (iii) | What per cent of the surface of the earth is covered by water? | A. 50% | B. 70% | C. 90% | D. None of these |
| (iv) | Igneous rocks are formed by _____ | A. Magma | B. Conglomerate | C. Marine deposit | D. Sand |
| (v) | To which type of mountains do the Himalayas belong? | A. Residual | B. Block | C. Folded | D. Volcanic |
| (vi) | Which landform is known as Tableland? | A. Plateau | B. Mountain | C. Plain | D. Island |
| (vii) | Meanders are formed by the action of _____ | A. Wind | B. Glacier | C. River | D. Sea |
| (viii) | Continental glaciers are found in _____ | A. Asia | B. Africa | C. Australia | D. Antarctica |
| (ix) | Which is the largest ocean? | A. Pacific | B. Atlantic | C. Indian | D. Arctic |
| (x) | Tides are caused by the pull of _____ | A. Earth | B. Moon | C. Planet | D. All of these |
| (xi) | Highest temperature is found in _____ | A. Tropic of Cancer | B. Equator | C. Tropic of Capricorn | D. Poles |
| (xii) | Which element of weather is measured by Barometer? | A. Snowfall | B. Humidity | C. Temperature | D. Air pressure |
| (xiii) | Lines joining the areas of the same temperature are _____ | A. Isobar | B. Isotherm | C. Isohyte | D. Isohaline |
| (xiv) | Which of the following are seasonal winds? | A. Trade | B. Westerlies | C. Monsoon | D. Polar |
| (xv) | FOHN winds blow across the _____ | A. Alps | B. Rockies | C. Himalayas | D. Ural |
| (xvi) | Around which latitude does the Torrid Zone lie? | A. Cancer | B. Capricorn | C. Poles | D. Equator |
| (xvii) | GORGE is formed by the action of _____ | A. Wind | B. River | C. Glacier | D. Sea |

For Examiner's use only:

Total Marks:

17

Marks Obtained:



Roll No.

Answer Sheet No.

Sig. of Candidate:

Sig. of Invigilator:

جغرافیہ - ایچ ایس ایس سی - ا

حصہ اول (کل نمبر: 17)

وقت: 25 منٹ

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات پر پے پی دی دیے جائیں گے۔ اس کو پہلے پچیس منٹ میں مکمل کر کے ہانگم مرکز کے حوالے کر دیا جائے۔ کٹ کر دو بارہ گنتی کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

سوال نمبر: دیے گئے الفاظ یعنی الف ا ب ج ا د میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

(i)	الف - جیو (GEO) کا کیا مطلب ہے؟	پہاڑ	ج۔	زمین	د۔	چاند
(ii)	الف - سمندر	پانی	ب۔	خوش زمین	د۔	مرکزہ
(iii)	الف - لٹوسفر (Lithosphere) کس سے متعلق ہے؟	پہاڑ	ج۔	خوش زمین	د۔	مرکزہ
(iv)	الف - 50%	پہاڑ	ج۔	90%	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(v)	الف - آتش پانی کس سے بنتی ہیں؟	پہاڑ	ج۔	70%	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(vi)	الف - میکا	پہاڑ	ج۔	برکی مواد	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(vii)	الف - آئریہ کا تعلق پہاڑ کی کس قسم سے ہے؟	پہاڑ	ج۔	برکی مواد	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(viii)	الف - کون سا نقش ارضی (Landform) نیل لینڈ کہلاتا ہے؟	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(ix)	الف - سطح مرتفع	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(x)	الف - پچہ پچہ	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(xi)	الف - پچہ پچہ	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(xii)	الف - پچہ پچہ	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(xiii)	الف - پچہ پچہ	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(xiv)	الف - پچہ پچہ	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(xv)	الف - پچہ پچہ	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(xvi)	الف - پچہ پچہ	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں
(xvii)	الف - پچہ پچہ	پہاڑ	ج۔	میلے ان	د۔	درجہ شدہ میں سے کوئی نہیں

حاصل کردہ نمبر:

17

محل نمبر:

برائے ممتحن:



GEOGRAPHY HSSC-I

Time allowed: 2:35 Hours


Total Marks Sections B and C: 68

NOTE:- Answer any fourteen parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.


SECTION - B (Marks 42)

Q. 2 Attempt any FOURTEEN parts. The answer to each part should not exceed 3 to 4 lines. (14 x 3 = 42)

- | | |
|--|---|
| (i) Define Geography. | (ii) Write a short note on Sedimentary Rocks. |
| (iii) Why is the Crust called SIAL? | (iv) Define Rock. |
| (v) How are Igneous rocks formed? | (vi) Name three Major landforms. |
| (vii) How do plains affect human activities? | (ix) Define Mechanical Weathering. |
| (viii) Define Weather and Climate. | |
| (x) Define Moraines. | |
| (xi) What do you know about the Caladonian Mountains? | |
| (xii) How are the flood plains formed? | (xiii) What is Continental Shelf? |
| (xiv) What do you know about Metamorphic Rocks? | |
| (xv) Differentiate between Daily Range of temperature and Annual Range of temperature. | |
| (xvi) Write a short note on Erosional Plains. | |
| (xvii) Write a short note on Wave. | |
| (xviii) In the following diagram different kinds of plateaus have been labelled A, B and C. Write down their names on your answer sheet: | |



- (xix) In the following diagram, important latitudes have been labelled A, B and C. Write down their names on your answer sheet:



SECTION - C (Marks 26)

Note: Attempt TWO questions. All questions carry equal marks.

(13 x 2 = 26)

- Q. 3 Write in detail about the branches of Physical Geography.
- Q. 4 Describe the causes of Ocean Currents.
- Q. 5 Discuss the classification of mountains with respect to their formation.

کل نمبر حصہ دوم اور سوم 68

2:35 گھنٹے

نوٹ: حصہ "دوم" اور "سوم" کے سوالات کے جوابات طبعیہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ "دوم" کے چودہ (14) اجزاء اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (2) سوال حل کیجیے۔ ایکسٹرا شیٹ (Sheet-B) طلب کرنے پر مہیا کی جائے گی۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 42)


(14x3=42)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے چودہ (14) اجزاء کے تین سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں:

- | | |
|--|---|
| (i) جغرافیہ کی تعریف کیجیے۔ | (ii) رسولی چٹانوں پر مختصر نوٹ لکھیے۔ |
| (iii) زمین کے پوست کو سیال (Sial) کیوں کہتے ہیں؟ | (iv) چٹان کی تعریف کیجیے۔ |
| (v) آتش چٹانیں کیسے وجود میں آتی ہیں؟ | (vi) تین امتوش ارضی کیر کے نام لکھیں۔ |
| (vii) میدان انسانی سرگرمیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ | (viii) موسم اور آب و ہوا کی تعریف کریں۔ |
| (ix) بریکنگی قلت در بخت کی تعریف کیجیے۔ | (x) ٹلٹی مواد (Morains) کی تعریف کیجیے۔ |
| (xi) کلدانی پہاڑوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ | (xii) سیالی میدان کیسے بنتے ہیں؟ |
| (xiii) براعظمی ترائی کیا ہے؟ | (xiv) متغیر چٹانوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ |
| (xv) روزانہ اور سالانہ تفاوت درجہ حرارت کا فرق تحریر کریں۔ | (xvi) انہدامی میدان پر مختصر نوٹ تحریر کیجیے۔ |
| (xvii) لہر (Wave) پر مختصر نوٹ لکھیے۔ | |
| (xviii) دی گئی ذیلی گرام میں سطوح مرتفع کی مختلف اقسام کو الف، ب اور ج لیبل کیا گیا ہے۔ ان کے نام اپنی جوابی کاپی میں لکھیے۔ | |



(xix) دی گئی ذیلی گرام میں اہم مرض بلد الف، ب اور ج لیبل کیے گئے ہیں۔ ان کے نام اپنی جوابی کاپی میں لکھیے۔



حصہ سوم (کل نمبر 26)

(2x13=26)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: بحری روؤں کے پیدا ہونے کے اسباب بیان کیجیے۔

سوال نمبر ۴: طبعی خزاؤں کی مثالوں کے متعلق تفصیل سے لکھیں۔
سوال نمبر ۵: نباتات کے لحاظ سے پہاڑوں کی درجہ بندی پر بحث کیجیے۔